

سُورَةُ الْقَصْفِ مَدَبَّرَيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تبیح کی ہے اللہ کی براں چیز نے جو آسمانوں میں ہے

سَبَبَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

اور جو زمین میں ہے اور وہ ہے زبردست اور ربی حکمت والا ①

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزَىُ الْحَكَمَيْمُ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُونَ

ایسی بات جو تم نہیں کرتے؟ ②

مَا لَا تَفْعَلُونَ ②

سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک یہ کہ تم کو

كُبْرَ مَقْنَأً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

وہ بات جو تم نہیں کرتے ③

مَا لَا تَفْعَلُونَ ③

یقیناً اللہ مجت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ

اس کی راہ میں صفت سستہ ہو کر اس طرح گیا کردہ

فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَانُوكُمْ

سیسے پلائی ہوئی دیوار ہیں ④

بُنِيَانٌ مَرْصُوصٌ ④

اور (یاد کرو) جب کما تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ

اے میری قوم کے لوگو! کیوں اذیت دیتے ہو تم مجھے

يَقُولُوا لَا تُؤْذُونَنِي

حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں

وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

تمہاری طرف بیکن جب انہوں نے کبھی اختیار کی

إِلَيْكُمْ فَلَمَّا رَأَغُوا

تو میرے ہے کر دیے اللہ نے ان کے دل۔

أَرْأَيْتَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ

اور اللہ بدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو ⑤

وَاللَّهُ لَا يَهِدِ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ⑤

وَرَأْدٌ قَالَ عَبْيَسَى ابْنُ هَرْبَمَ

بَيْنَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا

بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرِيْةِ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيُّ

مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَخْمَدُ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

قَالُوا هَذَا سُحْرٌ مُبِينٌ ⑤

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِ افْتَرَى

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ

إِلَى إِسْلَامٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ⑥

يُرِيدُونَ لِيُظْفِئُوا نُورَ اللَّهِ

بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ

مُتَّمِّثُ نُورٍ وَلَوْ

كِرَهَ الْكُفَّارُونَ ⑦

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الَّذِينَ كُلَّهُ وَلَوْ كِرَهَ الْمُشْرِكُونَ ⑧

اور جب کما عیینی بن مریم نے

اے بنی اسرائیل! یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں ہوں

تمہاری طرف تصریق کرنے والا ہوں اس حصہ کا جو

مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے

اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جائے گا

میرے بعد اس کا نام احمد ہو گا

یعنی جب وہ آیا ان کے پاس کھلی حل نشانیاں لے کر

تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے ④

اور کون ہے بلا فالم اس شخص سے جو باندھے

اللہ پر جھوٹا بہتان حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو

اسلام کی - اور اللہ نہیں ہدایت ریا کرتا

ایسے ظالم لوگوں کو ⑤

یہ چاہتے ہیں کہ بجاویں اللہ کا نور

پسے من کی چھوٹکوں سے۔ اور (یہ فیصلہ ہے) اللہ کا

کوہ پورا چھیلا کر ہے گا اپنے نور کو خواہ

کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو ⑥

دہی تو ہے جس نے مجھا ہے اپنا رسول ہدایت

اور دین حق کے ساتھ تاکرے غالب کر دے،

سب ادیان پر خواہ کستنا ہی ناگوار ہو مشرکین کو ⑦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ  
 تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَيْمٍ ⑩  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ  
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑪  
 يَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ  
 جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ  
 وَمَسْكِنٌ طَيِّبَهُ فِي جَنَّتٍ عَدِينَ  
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑫  
 وَآخْرٍ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ  
 مِنَ اللَّهِ وَفَتْنَهُ قَرِيبٌ  
 وَيَشْرِيْلُ الْمُؤْمِنِينَ ⑬  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ  
 كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيْنَ  
 مِنْ أَنْصَارِيَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ  
 نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَامْنَأْتَ طَائِفَةً  
 مِنْ بَنْيِ إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتُ طَائِفَةً  
 فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاصْبَحُوا ظِهَرِيْنَ ⑯

لے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو  
 بچا کے تم کو دردناک عذاب سے؟ ⑩  
 ایمان لاو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو  
 اللہ کی راہ میں لپٹے والوں اور جانوں سے  
 یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جاؤ ⑪  
 معاف فرمادے گا اللہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تھیں  
 ایسی جنتوں میں کہ بہرہ ہی ہیں ان کے نیچے نہ رہیں  
 اور (اعطا فرمائے گا) بہترین گھر، سدا بسا جنتوں میں  
 یہی ہے بہت بڑی کامیابی ⑫  
 اور وہ دوسرا چیز بھی تھیں دے گا جسے تم چاہتے ہوئے نصرت  
 اللہ کی طرف سے اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح  
 اور اے بنی اسرائیل! بشارت دے دو اہل ایمان کو ⑬  
 اے لوگو جو ایمان لائے ہو بنو اللہ کے مدگار  
 جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے  
 کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف (بلانے میں)۔ کہا تھا حولیوں نے  
 ہم میں اللہ کے مدگار بھر ایمان لے آیا ایک گروہ  
 بنی اسرائیل میں سے اور انکار کر دیا (دوسرے) گروہ نے  
 سوداگری ہم نے ایمان والوں کی  
 ان کے شہنوں کے مقابلے میں۔ سو ہو کر ہے دبی غالب ⑯